

49037 - مغرب کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالینے والا شخص باقی نماز کیسے مکمل کرے گا ؟

سوال

اگر میں مغرب کی نماز میں جماعت کے ساتھ دوسری رکعت میں تشهد کے دوران ملوں تو باقی نماز کیسے مکمل کرونگا ؟

میں اٹھ کر امام کے ساتھ تیسری رکعت مکمل کروں اور تشهد کے بعد اٹھ کر اپنی تیسری رکعت ادا کروں اور تشهد میں بیٹھوں یا کیا کروں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اگر آپ مغرب کی نماز میں جماعت کے ساتھ درمیانی تشهد میں ملیں تو آپ تیسری رکعت میں امام کی متابعت اور اقتدا کرینگے اور پھر تشهد بیٹھ کر امام کے سلام کے بعد اٹھ کر اپنی باقی ماندہ نماز مکمل کرینگے، آپ دو رکعات باقی ہیں، تو ان میں سے پہلی میں آپ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورۃ پڑھیں، اور پھر تشهد میں بیٹھیں جو کہ آپ کی درمیانی تشهد ہو گی۔

پھر اٹھ کر تیسری رکعت ادا کریں اور اس میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور پھر آخری تشهد بیٹھ کر سلام پھیر لیں۔

اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ اس نے امام کے ساتھ جو رکعت پائی وہ اس کی نماز کا اول حصہ تھا، اور جو وہ انفرادی طور پر ادا کر رہا ہے وہ اس کی نماز کا آخری حصہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ "المجموع" میں کہتے ہیں:

اگر اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پائی تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر ایک رکعت ادا کر کے تشهد بیٹھے گا اور پھر تیسری رکعت ادا کر کے تشهد بیٹھے گا "

دیکھیں: المجموع (4 / 117) .

پھر کہتے ہیں:

(ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسبوق نے جو جماعت کے ساتھ نماز پائی وہ اس کی نماز کا اول حصہ ہے، اور جو اس نے بعد میں ادا کی وہ اس کا آخری حصہ ہے، سعید بن مسیب، حسن بصری، عطاء، عمر بن عبدالعزیز، اور مکحول، زہری، اوزاعی، سعید بن عبد العزیز، اسحاق، رحمہم اللہ کا یہی قول ہے جو ابن منذر رحمہ اللہ نے ان سے بیان کیا ہے۔

اور میں بھی یہی کہتا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ: عمر، علی، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے اور ان سے ثابت نہیں، یہ امام مالک سے روایت اور داود کا بھی یہی کہنا ہے۔

اور ابو حنیفہ، مالک، ثوری، اور احمد رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ: اس نے جو جماعت کے ساتھ پائی وہ اس کی نماز کا آخری اور جو بعد میں ادا کی اس کی نماز کا اول حصہ ہے۔

اسے ابن منذر نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد، ابن سیرین سے بیان کیا ہے، اور ان کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"تم جو پالو وہ ادا کرو، اور جو رہ جائے اس کی قضاء کر لو"

اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور ہمارے اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل لی ہے کہ:

"جو تم پالو وہ ادا کرو، اور جو رہ جائے وہ مکمل اور پوری کرلو"

اسے بخاری اور مسلم نے بہت سے طرق سے روایت کیا ہے۔

بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

جنہوں نے "پوری اور مکمل کرو" روایت کیا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حافظ اور التزام کرنے والے ہیں جو کہ حدیث کے راوی ہیں تو وہ زیادہ اولیٰ ہیں۔

شیخ ابو حامد اور الماوردی کہتے ہیں:

کسی چیز کا اتمام اور پورا کرنا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا پہلا حصہ گزر چکا ہو اور اس کی آخری حصہ باقی ہو۔

اور بیہقی نے بھی ہمارے مسلک جیسا ہی عمر بن خطاب، علی، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ابن مسیب، حسن، عطاء، اور ابن سیرین، ابو قلابہ رحمہم اللہ سے روایت کیا ہے۔

اور رہی یہ روایت کہ:

اس کی قضاء کرو"

اس کا جواب دو طرح ہے:

پہلی وجہ:

فاتموا یعنی پوری اور مکمل کرو والی روایت کے رواۃ زیادہ اور احفظ ہیں۔

دوسری وجہ:

قضاء فعل پر محمول ہے، نہ کہ اصطلاح میں معروف قضاء پر، کیونکہ یہ اصطلاح متاخرین فقہاء کرام کی ہے، اور عرب قضاء کو فعل کے معنی پر اطلاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو۔

اور فرمان ہے:

جب آپ نماز ادا کر چکیں۔

شیخ ابو احمد کہتے ہیں:

مراد یہ ہے کہ: تمہاری نماز میں سے جو رہ جائے نہ کہ امام کی نماز میں سے، اور مقتدی کی جو نماز رہ گئی ہے وہ نماز کا آخری حصہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اھ

مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں ہے:

سوال:

میں مسبوق کی نماز کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں:

1 - جب امام نماز مغرب میں ایک یا دو رکعت پڑھا چکا ہو۔

2 - اگر چار رکعت والی نماز میں امام ایک یا دو رکعت ادا کر چکا ہو۔

مسبوق کیا پڑھے گا، کیا وہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا یا کہ اس کے ساتھ کوئی اور سورۃ بھی ؟

جواب:

مسبوق شخص امام کے ساتھ جو نماز پائے وہ مقتدی کی نماز کا اول حصہ شمار ہو گا، چنانچہ جس نے امام کے ساتھ مغرب کی نماز میں سے ایک رکعت پائی تو وہ نماز کا اول حصہ شمار ہو گا، جب امام کی سلام کے بعد وہ کھڑا ہو کر فوت شدہ نماز کی رکعات مکمل کرے، اور اس میں سے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورۃ یا کچھ آیات کی تلاوت کرے گا کیونکہ یہ اس کی دوسری رکعت ہے، اور پھر درمیانی تشهد بیٹھے گا، پھر مغرب کی رہ جانے والی آخری رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا، کیونکہ یہ اس کی تیسری رکعت ہے، اور پھر وہ آخری تشهد بیٹھے گا۔

اور اگر اس کی ایک رکعت رہ جائے اور امام کے ساتھ اس نے دو رکعت ادا کیں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرنے والی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، کیونکہ یہ اس کی تیسری رکعت تھی۔

لیکن اگر نماز چار رکعت والی ہو اور اس نے امام کے ساتھ تین یا دو رکعت ادا کیں تو باقی ماندہ رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ ہی تلاوت کرے گا، کیونکہ یہ اس کی نماز کا آخری حصہ ہے، اسے سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورۃ کی تلاوت نہیں کرنا ہو گی، فقہاء کرام کے اقوال میں سے صحیح قول یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اھ

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (7 / 322)۔

واللہ اعلم .